



سوال

(680) ہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ کیا اصحاب اعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کرتے ہیں؟ (محمد افضل، سوکن ونڈ)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جہاد فرض عین ہے، لیکن بقدر استطاعت اور والدین کی اجازت سے۔ [ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی، آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے ما باپ زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں میں جہاد کرو۔] 2

حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں؟ تو آپ نے فرمایا: یہ اعراف والے ہیں۔ آپ کے سوال والی بات بھی بعض روایات میں مذکور ہوئی، مگر وہ اتنی ہیختہ نہیں۔ واللہ اعلم۔

2 بخاری کتاب الجہاد باب الجہاد باذن الأولین

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 02 ص 683

محدث فتویٰ